

فیلکردن له زاکیره

— لە پەروایزى بىيارى لابىدىنى ئالاى عىراقدا —

۱- ته‌نیا سه‌ر به خویی و شک و خالی، ئیمە کەر و کوییر ناکات و نایپیت بەنان بۆمان " ۲

فرانز فانون له کتیبی دوژه خیه کانی سهر زه ویدا

● فیله سوپ تملکی نیتچه له یه کیک له قسه دره و شاهه کانیدا له کشیبی ((له سه رو و چاکه و خراپده)) ده لیت "ده شیت شتیک راست بیت، بدلام بیهندازه زهره مهند و ترسناک". راسته هدمیشه بو دهولمه ند کردنی ژیان و پر مانکارکنی بهداه کانی مرؤٹ ناید. راسق هدمیشه روروی جوانی نیبه و ده شیت روروی یه کجارت ناشیرینیشی هه بیت و بو مدبتستی جیواز له دهولمه ند کردن و قولکردنی ژیان به کار بیت. راستیش کاتی خوی هه بیه و ده بیت ناراسته کانی به کارهینیشی اشاکرابن، ریبین هه ردی دهینوسیت بوئنه وهی بتوانین حوكمی له سه بر بدھین. غونه هی ئدو تاوان و لا ریاندش زورن که بدناوی راستی و لدیزیر پرده ده راستیدا ئنجامدراون. هیچ که سیکیش هیندهی سیاسیه کان کارنامه دیان له به کارهینیانی راستیدا خراپ نییه. ئوان بدشیوه یه کی لیزانانه دتوانن ساده ترین راستی به کار بھتن بو ئنجامدانی چندان شتی ناراستی تر. ئدم هوندره له کور دستاندا خه سلنه تی تاییدتی خوی هه بیه و به کارهینیشی یه کجارت ناسانه. چونکه هیزه ده سه لاتداره کانی کورد له خه سلنه تیک به هرمه ند که له که هم کومدلگای دیدا هاو شیوه هدیه که ئه ویش کزی و لاوازی زاکیره و بیرونی خله لکی کور دستانه. کومدلگای کور دی، کومدلگای کی بی بیرونیه و به انسانی هدمو شییکی بیرده چیته وه. رابردوو هر گیز بدشیک نه بوده له بیر کردنده مرؤٹی نیمه له جیهان و ناینده خوی. رهنگه بدشیکی زوریش له گرنگیه دان به زانستی میزوو هه لیره وه بیت. رهنگه نیمه تاکه کومدلگای کی بین که ئه ونده میزوونو سهان که هه و ناوی ئه و که سانه ش که خه ریکی ئه و بواره له پهنجه کانی دهست که همزن. بیگومان بیر جوونه وهی کور دی رهنگه یه کیک له و چد که بد گریه ده رونیانه بیت که مرؤٹی نیمه لدبرامبره ئه و هدمو کاره سات دا که رو و بیرونیه بو تهده، به کارهیناوه. مرؤٹی نیمه که بی چدک و بد گریه کی راسته قینه شایه تی چندان کاره ساتی گهوره و بچوک بوده، رهنگه و هک بد گریه کیک هه رهونده دی پیکرا بیت که شته کان له بیر بکات. بدلام گدر ئهم خه سلنه و هک چه کیکی بد گری هیزی مانه وهی به کورد بد خشیتیت، ئهوا له روروی ژیانی هدنوو که و ناینده و گدوره ترین زیانی پیده گدیدنیست. نه بونی زاکیره و بیرونیه یه کیکه له کوشند ترین ئه و نه خوشیانه روبه روروی کومدلگای کی بیشنه. نه بونی زاکیره و بیرونیه خه سلنه تیکه حیز به کور دیه کان له هدمو که س شاره زایانه تر کاری له سه رده کدن و هدر کاتیک پیوستیان پیتیت، به کاری دینن. ئوان کاتیک لیبور دنیکی بی ثوارتیان بو موست دشاره کان ده کرد، پشتیان بدم خه سلنه بدستوو. که لدواز را پهربیشنه وه ده کانیان بو تاوان بترینیان کرده و پله و ئیمتیازاتیان دانی، هه پشتیان بدم خه سلنه بدستوو. هدنو کدش که بد ردنی، باسی لادر دنی ئالای عراق ده کات هه ریشت بدم خه سلنه ته ده بستیت.

لهم رؤژانه‌دا که ههراي ئالاي كوردستان و عىراق له چلەپۈهدايە، بىرى ئەو دانىشتىنى يەكىمى پەرلەمانم كەوتەوە كە تىايدا سەوزەكان داواي لابردنى ئالاي عىراقيان لەپەرلەماندا دەكىد و زەرده كانيش بەناوى عىراقىيۇنەوە، بەتوندى دېزى وەستان. بىرى ئەو دانىشتىنم كەوتەوە كە لەسەر ناردنى تىپە وەرزشىيەكان بۇ ناو يانە عىراقىيە كان سازكرا و سەوزەكان داواي وەستاندىنما دەكىد و زەرده كانيش بەناوى عىراقىيۇن و بەشىك بۇون لەعىراق، داڭزكىيان لىيەكەردى. بىرى رۆژانى ناخىزشى 31 ئام كەوتەوە كە زەرده كان لەزېر ئالاي عىراق و بەهاو كاي لەشكىرى خوتىباى بەھس سەوزەكانيان لە ھەولىيە دەركەرد.

چ دنیا یاه کی سهیر ده زین، چندان سال به سه رهم رووداونددا تینا پهربت و هملویسته کان ئاوه زورو ده بنه وه. ئدهو ئدمرو زهر ده کان داوای لابردنی ئالای عیراق ده کدن و ئدهو سهوزه کان بون که ئدمکاره بیان پی خراب ببو وه ملیان بز نهدا تائه و کاته ندیت که بدرزانی بورو سدرؤکی هدریم و له بپیاریکی رسیمیدا که هدرایه کی را گهیاندنه ناوه تدوه، فدرمانی لابردنی ئالای عیراقی له شوینه رسیمیه کاندا ده کرد. ئتم کرده وانه له کوردستاندا مایه شدمکردن نین، به لکو به شیکن له سروشیزین ئهو کرده وانه که بدرده وام لدم حیزبانه وه دیوانبینین. چ قهیده ! خو خدلکی بیری لای هیچ نیبه و هدر ئدمرو ده بیئی ؟ کی بیری دونیتی ماوه. به لام هدسته کدم ئەمجاره تدو قیچی را گهیاندنه که دی بدرزانی له کاتی خزیدا نه بوو. ندک له بدرئه وه کۆمەلگای ئیمه گۆراوه و زاکیره بەھیزه و ده زانیت هدر دوینی بوو بە کیلک له کیشە کانی له گەن يە کیتیدا سوربۇنى بۇ له سه رعراقييۇن و ئالاي عيراق !! به لکو له بدرئه وه که کۆمەلگای ئیمه کېشە زيندو تر و رۆزانه ترى له گەن ئەم دەسەلاتە كور دىيەدا هەيدىه که بە گەمە كر دن به هەستە نەتە و ايەتى خەلکىم، ناشارىيە وه.

دو کانداریک پیگوتم " تهدی ئەم ئالایه چىيە خۇيان پىوه خەرىكىردووه. من چى لە ئالا بىكم كە نە كارەبام ھەيدە نە بېۋىيە كى مسوڭگەر و نە كەرامەتىكى پارىزراو و نەپاسايىلەك كە دزە گەورە كان بېگرىت ". ئەو دو کاندارە راستى دەكىد. كوردىستان ھەننو كە كۆمىدلىك كىشىدە گەورە ئىتىدایە كە لەپىش ھەممۇيانەوە دەسەلاتى بى چاودىرىي مەكتەبى سىپاسى ھەر دوو حىزبى سەركەدىيە كە كەمس نازانىت سامان و پارەو پۈولى لەتكى و لەچىسىدا سەرفەدە كەن؟ مىزانىيە حىزبە كانىيان چەندە و چ ياسايدى ئەدو مىزانىيە بۆ دايىنكردوون؟، مىزانىيە حكومەت خۆى چەندە و چۈن سەرف دەكرىت. سەرچاوهى دارايى ئەم ھەممۇ دەولەمدەندە تازەيە كوردىستان كە لەشاخەوە ھاتۇنەتەوە، چىه و چۈنە؟ ئەو ياسايدى كامايە كە دەتوانىت لەئىوهش وەك ئىمە بېرىسيتەوە و ئەمرى گۈتنىتان لەسەر تەمنە شەكتەتك ((بەدەر لەھەي راستە بان نە (4) بۆ دەرىبات .

راسته زاکریه‌ی کورد یه کچار لاوازه و به انسانی ده توانن لمه او هدیه کاندان بده سه د و هه شتا بگورن و که سیش نه لیت نه دری بۆ ؟

راسته که سبیر دویختی نیمه و که میش نیمه لیبان پرسیته و، بدلام ندک بدو را دیده و که هارویه کمان دهیگوت و که ((ماری نهندوایت)) فرده نساتان

لیبیت، ژیان و کیشه راسته قینه کانی خدّلک له لایهک و سه رگه‌رمی و لیدوانه کانی ئیوهش له لایدک.